اَلْاَوْرَادُ الْفَتْحِيَّةُ

مَعَ

دُعَاءِ الرِّقَابِ

تَأْلِيْفُ اللَّطِيْفِ

لِسَيِّدِنَا الْاَمِيْرِ الْكَبِيْرِ اَلشَّيْخِ السَّيِّدِ

عَلِیْ شِهَابِ الدِّیْنِ الْحُسَیْنِیِّ الْهَمْدَانِیْ

نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهٗ وَقَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ

نام کتاب : اَلْاَوْرَادُ الْفَتْحِیَّۃُ

مترجم: حَکِیْم شَفِیْق اَحْمَدَ الْقَاسِمِیّ النَقْشْبَنْدِی
اَلشُّوْفِیَانِیّ الْکَشْمِیْرِی
خَادِمُ بِدَارِ الْعُلُوْمِ الْاِسْلَامِیَّۃِ فِنْجُوْرَہ

ناشر

درسگاہ خلفائے راشدین کولگام

ملنے کا پتہ:

مکتبہ دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان کشمیر (192303)

فون نمبرات: 9070404505/9906625250

مقدمہ از پیر طریقت حضرت اقدس مولانا ومخدومنا محمد رحمت اللہ میر صاحب دامت برکاتہم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رب العٰلمین والعاقبۃ للمتقین وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

امابعد!

اللہ تعالی کے غیبی نظام کے تحت اس کی بنائی کائنات کے مختلف اطراف میں حضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ پہنچائے گئے پیغام کولیکر اس کے مختلف بندے مختلف علاقوں کیلئے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنے۔ وہ علاقے ان حضرات کی محنت سے ایمان میں داخل ہوئے یوں اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنتِ نظیر کشمیر میں عمومی سطح پر اسلام کا نور پھیلانے کی سعادت سید السادات حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ کے حصّے میں رکھی تھی چنانچہ آپؒ کے ذریعہ سے یہ ظلمت کدہ

بقعہ نور میں تبدیل ہو گیا، کفریہ و شرکیہ اعمال و افعال کے بدلے اَللّٰہُ اَکْبَر اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ کی صدائیں گونجنے لگیں اور گم کردہ راہوں کو راہ ہدایت نصیب ہو گئی۔

ایمان کی مضبوطی اور پختگی میں جہاں احکام قرآنی کی تعمیل اور اتباع سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بہت ہی زیادہ مؤثر ہے وہیں پر اذکار مسنونہ و ادعیہ مأثورہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں چناں چہ تمام اکابر و بزرگان دین اس سلسلہ میں اپنے متعلقین کو مختلف وظائف سے نوازتے ہیں جیسا کہ قرون اولیٰ سے اس کا تسلسل چلا آرہا ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ جو سلسلہ کبرویہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ سلسلہ سہروردیہ کی شاخ مانی جاتی ہے، نے بھی اپنے مریدین کو صبح اور شام کے اوقات میں اپنا معمول بنانے کے لئے ادعیہ مأثورہ کا مجموعہ عطا کیا جس کو اوراد فتحیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس مجموعہ کا ورود اور اسکی تاریخ کتابوں میں درج ہے گویا یہ مجموعہِ دعا کشمیریوں کے وظائف میں شامل ہے جس کا اردو زبان میں ترجمہ عزیزم حکیم شفیق احمد نے کیا ہے اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے۔

عرضِ مترجم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اِسْتَحَقَّ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ،
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَمَرَنَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ اِلَیْهِ وَحْدَہٗ،
وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَّا نَبِیَّ بَعْدَہٗ وَعَلٰی اٰلِہٖ
وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَمَنْ تَبِعَھُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔

امابعد

اورادشریف حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رضی اللہ عنہ کی وہ الہامی تصنیف ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درودوں اور ایسی دعاوں کا مجموعہ ہے جنکا ماخذ قرآن مجیداوراحادیثِ مبارکہ ہیں یہ وہ مقدس مجموعہ ہے جسے پورے عالم خاص کر ہندوستان پاکستان افغانستان ترکستان اور کشمیر میں قبولیت عامہ حاصل ہے۔

بعض احباب کا کافی عرصہ سے اصرار رہا کہ اس کتاب کو کمپوز کیا جائے اور اس کا آسان سا ترجمہ بھی کیا جائے کیونکہ عام طور پر

دیکھا گیا کہ اوراد شریف کے اکثر چھپے ہوئے نسخوں میں اعرابی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔احقر نے ان کے حکم کو غنیمت جانا اور اس پر کام شروع کیا جب اردو ترجمہ مکمل ہوا پھر کشمیری زبان میں اسکا ترجمہ کیا۔الحمد للہ! اس کتاب کی تصیح کی حتی الوسع کوشش کی گئی ساتھ ساتھ چند باتوں کا اہتمام کیا(۱) اس کتاب میں اعرابی غلطی نہ رہے (۲) بہت سی دعاؤں کا حوالہ نقل کیا (۳) جن مقامات پر پڑھنے میں احتیاط کرنی ہے وہاں پر الگ رنگ سے عبارت لکھی گئی ہے اس کے باوجود اگر کوئی غلطی نظر آئے یا کوئی مفید مشورہ تجویز ہو تو براہ کرم تحریر کرکے یا زبانی ہمیں ضروری مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت بہتر اور غلطی سے پاک ہوسکے۔

ساتھ میں گذارش ہے کہ جب بھی آپ اوراد شریف کا ورد کریں تو اس سیاہ کار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبولیت سے نوازے آمین

حکیم شفیق احمد قاسمی غفرلہ

صاحب اوراد فتحیہ حضرت میر سید علی ہمدانیؒ کے مختصر حالات زندگی

سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم

- آپ ملک فارس کے شہر ہمدان میں ۱۲ رجب المرجب (۷۱۴ھ) مطابق ۱۹ جنوری (۱۳۱۴ء) میں تولد ہوئے۔
- آپ کا نسب والد گرامی کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے گویا آپ نجیب الطرفین ہیں۔
- آپ نے قرآن پاک کا حفظ اور علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کی تحصیل وتکمیل صرف تیرہ سال کی عمر مبارک میں اپنے ماموں حضرت سید علاء الدین ہمدانیؒ سے کی۔
- اسکے بعد آپ نے مشائخ کا رخ فرمایا جن میں ابوبکر ہمدانیؒ، محمود مزدقانیؒ، نجم الدین ازیانیؒ قابل ذکر ہیں۔

- حضرت نجم الدین ازیانیؒ کی وفات کے بعد آپ درس وتدریس اور دعوت وتبلیغ میں مشغول ہوئے، اسکے بعد آپ حضرت شیخ شرف الدین محمود مزدقانیؒ کی صحبت با برکت سے فیضیاب ہوئے اور آپ کی خدمت اقدس میں چھ سال گذارنے کے بعد شیخ کی طرف سے سیر وسیاحت کا حکم ہوا چنانچہ آپؒ نے (۲۱) سال یعنی ۷۳۳ھ تا ۷۵۴ھ کی طویل مدت تک مختلف اسلامی ممالک کا دورہ کیا جس میں آپ سے طلبہ کی کثیر تعداد نے علوم ظاہرہ وباطنہ کو حاصل کیا اس عرصہ میں تین مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔
- آپ جب واپس اپنے وطن تشریف لائے تو لوگوں میں آپ کی شہرت ہوئی اور جوق در جوق آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو حاسدین کی نگاہ سے بچ نہ سکے جس کے نتیجہ میں وقت کی حکومت آپ کے خلاف ہوگئی
- اس لئے آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی یوں آپ نے اپنے جدامجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کی۔

- اس دوران آپ نے تین مرتبہ یعنی اول ۷۷۴ھ مطابق ۱۳۷۲ء، دوم ۷۸۱ھ مطابق ۱۳۷۹ء سوم ۷۸۵ھ مطابق ۱۳۸۷ء کشمیر کو اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی۔
- کشمیر تشریف آوری پر آپ کے ساتھ آپ کے سات سو طلبہ اور مریدین تھے جن سب کا تعلق خاندان سادات سے تھا آپ نے واضح طور پر دینی، اقتصادی، سیاسی وسماجی اعتبار سے کشمیر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔
- کشمیر میں آپ نے مساجد تعمیر کرائیں جہاں سے اسلام کو پھیلایا گیا علوم اسلامی کو عام کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اہل کشمیر کو مختلف فنون میں ماہرین کی ایک بڑی جماعت میسر کی ،جن سے صنعت وحرفت کی مختلف چیزیں سیکھیں یوں انکی اقتصادی حالت بہتر ہوگئی۔
- آپ کے دست مبارک پر چالیس ہزار سے زیادہ بودھ اور ہندو مشرف باسلام ہوئے اور اہل کشمیر کو انکی جہالت اور انکے اختلافات کے بعد ایک جھنڈے کے نیچے جمع فرمایا۔

- کشمیر سے واپسی پر ۲ ذی الحجہ ۷۸۶ ھ مطابق ۱۹ جنوری ۱۳۸۷ء آپ افغانستان میں اس عالم فانی سے رخصت ہوئے (انا للہ وانا الیہ راجعون)
- آپ کے طلبہ ومریدین نے آپ کی نعش مبارک کو تاجکستان منتقل کیا اور وہیں پر آفتاب ولایت کا یہ درخشندہ ستارہ صبح قیامت تک آرام فرما ہے۔
- آپ کی تصانیف کثیر ہیں جن میں مشہور (اورادفتحیہ) ہے جو اللہ تعالی کے اسماء اور صفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھیجے جانے والے دوردوں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کا مترجم نسخہ اس وقت آپکے ہاتھوں میں ہے۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے(القرآن)

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰهَ الۡعَظِيۡمَ (۳مرتبہ)

میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے

اَلَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَيُّوۡمُ

جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ اور تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے

وَ اَتُوۡبُ اِلَيۡهِ وَاَسۡئَلُهُ التَّوۡبَةَ (رواہ ترمذی کذا فی المشکوۃ)

اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں اور اسی سے توبہ کی قبولیت طلب کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اَنۡتَ السَّلَامُ وَمِنۡكَ السَّلَامُ وَاِلَيۡكَ يَرۡجِعُ السَّلَامُ

اے اللہ ! آپ ہی سلامتی والے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے اور آپ ہی کی طرف سلامتی لوٹتی ہے

حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدۡخِلۡنَا دَارَ السَّلَامِ

اے ہمارے رب ! ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر (جنت) میں داخلہ نصیب فرما

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

تیری ذات بابرکت وعالی مقام ہے، اے عظمت واکرام والے خدا

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُّوَافِيْ نِعَمَكَ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَ كَرَمِكَ

اے اللہ! آپ ہی کے لئے ساری تعریفیں ہیں ایسی تعریفیں جو آپکی نعمتوں کا حق ادا کر سکیں اور کافی ہو مزید آپ کے احسانات کے

اَحْمَدُكَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى كُلِّ حَالٍ

میں آپکی ہی حمد بیان کرتا ہوں آپکی ان تمام خوبیوں پر جن سے میں واقف ہوں اور جن سے میں ناواقف ہوں اور آپکی ان تمام نعمتوں پر جن سے میں واقف ہوں اور جن سے میں ناواقف ہوں اور آپکی ہی حمد کرتا ہوں ہر حال میں۔(الاذکار للنووی نزل البرار)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رواہ ابوداؤد)

میں پناہ چاہتا ہوں اللہ جل شانہ کی شیطان مردود کے شر سے

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو زندہ ہے ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسکو اونگھ اور نیند اپنی گرفت میں نہیں لیتی

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اسکے سامنے سفارش کرے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اور جو کچھ انکے پیچھے ہے

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

اور نہیں گھیر سکتے ہیں اسکے بندے کچھ بھی اس کے علم میں سے مگر جو کچھ وہ چاہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (سورہ البقرہ)

اسکی کرسی گھیرے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، اور انکی حفاظت اسکو تھکا نہیں دیتی، وہی برتر اور بزرگ ہے

سُبْحَانَ اللّٰهِ (۳۳مرتبہ)(رواہ مسلم کذافی المشکوٰۃ)

پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (۳۳مرتبہ) (رواہ مسلم کذافی المشکوٰۃ)

تمام تعریفیں اسی اللہ تعالی کے لئے ہیں

اَللّٰہُ اَکْبَرُ (۳۴مرتبہ) (رواہ مسلم کذافی المشکوٰۃ)

اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۰مرتبہ) (رواہ ابوداوٗد وابن ماجہ کذافی المشکوہ)

اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ یکتا ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بادشاہ ہے اور زبردست طاقتور ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو یکتا ہے اور بہت غلبہ والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو غالب، بہت مغفرت کرنے والا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ الْکَرِیْمُ السَّتَّارُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو کرم کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بڑا اور بلند و بالا ہے۔

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ خَالِقُ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو رات اور دن کو پیدا کرنے والا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ الْمَعْبُوْدُ بِکُلِّ مَکَانٍ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کی ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ الْمَذْکُوْرُ بِکُلِّ لِسَانٍ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کا ذکر ہر زبان پر جاری ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ الْمَعْرُوْفُ بِکُلِّ اِحْسَانٍ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو اپنے ہر احسان سے پہچانا جاتا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَاْنٍ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو ہر آن نرالی شان کے ساتھ ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے
(یعنی اسکے معبود ہونے پر میں ایمان لاتا ہوں)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَانًا مِّنَ اللّٰهِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کلمہ کو اللہ کی طرف سے امان تصور کرتے ہوئے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَانَةً عِنْدَ اللّٰهِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کلمہ کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھتے ہوئے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی توفیق اور طاقت اس کے سوا نہیں

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ (رواه مسلم)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ کلمہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِیْمَانًا وَّصِدْقًا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس پر ہمیں پکا اور سچا ایمان ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَبُّدًا وَّرِقًّا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسکی بندگی اور غلامی کرتے ہوئے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَلَطُّفًا وَّرِفْقًا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لطف و کرم اور نرمی کے ساتھ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَبْلَ كُلِّ شَیْءٍ (رواہ طبرانی)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسکی ذات ہر چیز سے پہلے ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بَعْدَ كُلِّ شَیْءٍ (رواہ طبرانی)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسکی ذات ہر چیز کے بعد باقی ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَبْقٰی رَبُّنَا وَیَفْنٰی وَیَمُوْتُ كُلُّ شَیْءٍ (رواہ طبرانی)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہمارا رب باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اور مر جائے گی

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ (ابو نعیم)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو حقیقی اور واضح بادشاہ ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْيَقِيْنُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو حقیقی اور یقینی بادشاہ ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ (کنز العمال)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بلند و بالا و بزرگ تر ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ (کنز العمال)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بردبار اور کرم کرنے والا ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرُبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا (رواہ البخاری)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو تمام سخیوں سے زیادہ سخی ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ حَبِيْبُ التَّوَّابِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ رَاحِمُ الْمَسَاكِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ هَادِی الْمُضِلِّيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَلِيْلُ الْحَائِرِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حیران لوگوں کا رہنما ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَمَانُ الْخَائِفِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خوف زدہ لوگوں کو امن دینے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہترین مددگار ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہترین حاکم ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ (القرآن)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہتر فتح و نصرت دینے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ (القرآن)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہتر مغفرت کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو بہترین رحم کرنے والا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ (وَصَدَقَ وَعْدَهٗ) وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ جُنْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ وَلَا شَیْءَ بَعْدَهٗ (رواہ مسلم)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے (حضرت محمد ﷺ) کی مدد کی اور اپنے لشکر کو عزت بخشی اور اسلام دشمن جماعتوں کو تنہا شکست دی

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَآءُ الْحَسَنُ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ نعمتوں کا عطا کرنے والا اور اسی کا فضل و کرم ہے اور اسی کے لئے بہترین تعریفیں ہیں (رواہ مسلم)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے (میں گواہی دیتا ہوں) اسکی مخلوق کی تعداد اور اسکے عرش کے وزن کے برابر اور اسکی خوشنودی کی حد تک اور اسکے کلمات کے بقدر

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيْمِيَّةِ الْاَزَلِيَّةِ الْاَبَدِيَّةِ لَيْسَ لَهٗ ضِدٌّ وَّلَا نِدٌّ وَّلَا شِبْهٌ وَّلَا شَرِيْكٌ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو تنہا و یکتا ہمیشہ رہنے والا اور ازلی اور ابدی ہے نہ اسکا کوئی مقابل اور نہ اسکا کوئی ہمسر اور نہ اس جیسا کوئی، اور نہ اسکا کوئی شریک ہی ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (رواہ ترمذی وابن ماجہ)

اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ خود زندہ جاوید ہے اس پر موت طاری نہیں ہوتی اسی کے دستِ قدرت میں ساری خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے (القرآن)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (القرآن)

کوئی شئ اس جیسی نہیں ہے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

(۳مرتبہ)

ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز، کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

اے ہمارے رب! ہم تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف واپس آنا ہے

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (رواہ، بخاری و ابو داؤد)

اے اللہ! جو آپ عطا کریں اسکو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں اور جس چیز کا آپ فیصلہ کریں اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اور کسی صاحب مال و جاہ کو اسکا وہ مال و جاہ آپکے مقابلہ میں نفع نہیں دے سکتا

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ (الحزب الاعظم للملا علی القاری)

پاک ہے میرے پروردگار کی ذات جو بلند و بالا اور بہت عطا کرنے والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ (الحزب الاعظم للملا علی القاری)

پاک ہے میرے پروردگار کی ذات جو بلند و بالا اور بہت عطا کرنے والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى، الْكَرِيْمِ الْوَهَّابِ يَا وَهَّابُ

پاک ہے میرے پروردگار کی ذات، جو بلند و بالا کریم اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے عطا کرنے والے۔ (الحزب الاعظم للملا علی القاری)

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

پاک ہے آپکی ذات ہر عیب و نقص سے، ہم نے آپکی عبادت اس طرح نہیں کی جیسا کہ آپکی عبادت کا حق تھا

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

پاک ہے آپکی ذات ہر عیب و نقص سے، ہم نے آپ کو اس طرح سے نہیں پہچانا جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق تھا

سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ

پاک ہے آپکی ذات ہر عیب و نقص سے، ہم نے آپکا ذکر اس طرح نہیں کیا جیسا کہ آپ کے ذکر کا حق تھا

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ

پاک ہے آپکی ذات ہر عیب و نقص سے، ہم نے آپ کا شکر اس طرح ادا نہیں کی جیسا کہ آپکے شکر ادا کرنے کا حق تھا

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْاَبَدِيِّ الْاَبَدِ

پاک ہے اللہ کی ذات وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ

پاک ہے اللہ کی ذات جو تن تنہا، اکیلا ہے

سُبْحَانَ اللهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

پاک ہے اللہ کی ذات جو یکتا و بے نیاز ہے

سُبْحَانَ اللهِ رَافِعِ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

پاک ہے اللہ کی ذات، جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرنے والا ہے

سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

(عن حماد بن ابی حنیفہؒ، مومن کا ہتھیار)

پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نہ بیوی ہی اختیار کی نہ کسی کو اولاد ہی بنایا ہے

سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

پاک ہے اس اللہ کی ذات جو نہ کسی سے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا اور نہ ہی کوئی اسکا ہمسر ہے (عن حماد بن ابی حنیفہؒ، مومن کا ہتھیار)

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (القرآن)

پاک ہے اسکی ذات، جو بادشاہ ہے ہر عیب و نقص سے پاک ہے

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ

پاک ہے وہ ذات جو انسانوں کی دنیا اور فرشتوں کے عالم کا مالک ہے

سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّۃِ وَالْعَظَمَۃِ وَالْقُدْرَۃِ وَالْھَیْبَۃِ وَالْجَلَالِ
وَالْجَمَالِ وَالْکَمَالِ وَالْبَقَآءِ وَالثَّنَآءِ وَالضِّیَآءِ وَالْآلَاءِ
وَالنَّعْمَآءِ وَالْکِبْرِیَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ

پاک ہے وہ ذات جو عزت و عظمت اور قدرت و ہیبت اور رعب و جمال اور کمال و ہمیشگی، اور لائق تعریف و منبع نور اور ظاہری و باطنی نعمتوں اور بزرگی و غلبہ کا سرچشمہ ہے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَلَا یَمُوْتُ

پاک ہے وہ ذات جو بادشاہ زندہ و جاوید ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ اس پر موت طاری ہوتی ہے

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَآئِکَۃِ وَالرُّوْحِ (شامی)

پاک ہے ہر عیب و نقص سے ہمارا اور ملائکہ اور جبرئیلؑ کا رب

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ (رواہ ابن ماجہ)

پاک ہے اللہ کی ذات اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو قدرت و طاقت نہیں ہے جو بلند و بالا اور عظیم ہے

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ (رواہ البخاری)

اے اللہ! آپ وہ حقیقی بادشاہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں آپ کے بغیر

یَااَللّٰہُ	یَارَحْمٰنُ	یَارَحِیْمُ	یَامَلِكُ
اے اللہ (جل شانہ)	اے دنیا کے مہربان	اے آخرت کے مہربان	اے بادشاہ
یَاقُدُّوْسُ	یَاسَلَامُ	یَامُؤْمِنُ	یَامُھَیْمِنُ
اے پاک ذات	اے سلامتی والے	اے امن دینے والے	اے (کائنات کے) نگہبان
یَاعَزِیْزُ	یَاجَبَّارُ	یَامُتَكَبِّرُ	یَاخَالِقُ
اے بہت غالب	اے زبردست	اے بڑائی اور کبریائی والے	اے پیدا کرنے والے
یَابَارِئُ	یَامُصَوِّرُ	یَاغَفَّارُ	یَاقَھَّارُ
اے انوکھا بنانے والے	اے صورتوں کو بنانے والے	اے بہت مغفرت کرنے والے	اے بہت قہر کرنے والے
یَاوَھَّابُ	یَارَزَّاقُ	یَافَتَّاحُ	یَاعَلِیْمُ
اے بہت عطا کرنے والے	اے بہت رزق دینے والے	اے رحمت کا دروازہ کھولنے والے	اے بہت جاننے والے

يَاقَابِضُ	يَابَاسِطُ	يَاخَافِضُ	يَارَافِعُ
اے روکنے والے	اے وسعت عطا کرنے والے	اے گرانے والے	اے بلند کرنے والے
يَامُعِزُّ	يَامُذِلُّ	يَاسَمِيعُ	يَابَصِيرُ
اے عزت بخشنے والے	اے ذلت دینے والے	اے بہت سننے والے	اے بہت دیکھنے والے
يَاحَكَمُ	يَاعَدْلُ	يَالَطِيفُ	يَاخَبِيرُ
اے فیصلہ کرنے والے	اے انصاف کرنے والے	اے مہربانی کرنے والے	اے خبر رکھنے والے
يَاحَلِيمُ	يَاعَظِيمُ	يَاغَفُوْرُ	يَاشَكُوْرُ
اے بردبار	اے عظمت والے	اے بہت مغفرت کرنے والے	اے فرمانبرداروں کے قدردان
يَاعَلِيُّ	يَا كَبِيرُ	يَاحَفِيظُ	يَامُقِيتُ
اے بلند وبالا ذات	اے بزرگ وبرتر	اے حفاظت کرنے والے	اے ہر چیز کے نگہبان
يَاحَسِيبُ	يَاجَلِيلُ	يَا كَرِيمُ	يَارَقِيبُ
اے حساب لینے والے	اے عظیم قدر والے	اے کرم کرنے والے	اے نگرانی کرنے والے

یَامُجِیْبُ	یَاوَاسِعُ	یَاحَکِیْمُ	یَاوَدُوْدُ
اے قبول کرنے والے	اے وسیع قدرت والے	اے حکمت والے	اے محبت کرنے
یَامَجِیْدُ	یَابَاعِثُ	یَاشَهِیْدُ	یَاحَقُّ
اے بلند شان والے	اے قبروں سے اٹھانے والے	اے حاضر وناظر	اے برحق ذات
یَاوَکِیْلُ	یَاقَوِیُّ	یَامَتِیْنُ	یَاوَلِیُّ
اے کافی ہونے والے	اے طاقت والے	اے مضبوط ترین ذات	اے دوستی کرنے والے
یَاحَمِیْدُ	یَامُحْصِیُ	یَامُبْدِئُ	یَامُعِیْدُ
اے لائق حمد وثناء	اے شمار کرنے والے	اے ابتداء کرنے والے	اے دوبارہ لوٹانے والے
یَامُحْیِیُ	یَامُمِیْتُ	یَاحَیُّ	یَاقَیُّوْمُ
اے زندہ کرنے والے	اے مارنے والے	اے ہمیشہ رہنے والے	اے قائم رکھنے والے
یَاوَاجِدُ	یَامَاجِدُ	یَاوَاحِدُ	یَااَحَدُ
اے صاحب وجود	اے عظیم وبرتر ذات	اے خوبیوں میں یکتا	اے وجود میں ایک

یَاصَمَدُ	یَاقَادِرُ	یَامُقْتَدِرُ	یَامُقَدِّمُ
اے بے نیاز ذات	اے قدرت والے	اے بااقتدار وعزت والے	اے آگے بڑھانے والے
یَامُؤَخِّرُ	یَااَوَّلُ	یَاآخِرُ	یَاظَاهِرُ
اے پیچھے کرنے والے	اے سب سے پہلے	اے سب سے آخری ذات	اے ظاہر
یَابَاطِنُ	یَاوَالِیُ	یَامُتَعَالِیُ	یَابَرُّ
اے پوشیدہ ذات	اے حکومت والے	اے بلند وبرتر ہستی	اے نیکوکار
یَاتَوَّابُ	یَامُنْعِمُ	یَامُنْتَقِمُ	یَاعَفُوُّ
اے بار بار توبہ قبول کرنے والے	اے نعمت عطا کرنے والے	اے انتقام لینے والے	اے در گذر کرنے والے
یَارَؤُوفُ	یَامَالِكَ الْمُلْكِ	یَاذَاالْجَلَالِ	وَالْاِكْرَامِ
اے مہربانی کرنے والے	اے کائنات کے مالک	اے عزت والے	اور بزرگی والے
یَارَبُّ	یَامُقْسِطُ	یَاجَامِعُ	یَاغَنِیُّ
اے تربیت کرنے والے	اے انصاف کرنے والے	اے جمع کرنے والے	اے بے نیاز

يَامُغۡنِي	يَامُعۡطِي	يَامَانِعُ	يَاضَآرُّ
اے بے نیاز کرنے والے	اے عطا کرنے والے	اے روکنے والے	اے نقصان دینے والے
يَانَافِعُ	يَانُوۡرُ	يَاهَادِيۡ	يَابَدِيۡعُ
اے نفع دینے والے	اے روشن ذات	اے راہ دکھانے والے	اے بے مثال بنانے والے
يَابَاقِيۡ	يَاوَارِثُ	يَارَشِيۡدُ	يَاصَبُوۡرُ
اے ہمیشہ رہنے والے	اے مال ومتاع کے وارث	اے رہنمائی کرنے والے	اے نہایت بردبار

يَاصَبُوۡرُ	يَاصَادِقُ	يَاسَتَّارُ
اے نہایت بردبار	اے سچ فرمانے والے	اے پردہ پوشی کرنے والے

يَامَنۡ تَقَدَّسَ عَنِ الۡاَشۡبَاهِ ذَاتُهٗ وَتَنَزَّهَ عَنۡ مُّشَابَهَةِ الۡاَمۡثَالِ صِفَاتُهٗ

اے وہ ہستی جسکی ذات ہمسروں سے پاک ہے اور جسکی صفات مشابہتوں سے پاک ہے

وَيَامَنۡ دَلَّتۡ عَلٰى وَحۡدَانِيَّتِهٖ آيَاتُهٗ

اے وہ ذات جسکی نشانیاں اسکی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں

وَشَهِدَتْ بِرُبُوْبِيَّتِهٖ مَصْنُوْعَاتُهٗ

اور اسکی بنائی ہوئی چیزیں اس کے پروردگار ہونے پر گواہی دے رہی ہیں

وَاحِدٌ لَّا مِنْ قِلَّةٍ وَّمَوْجُوْدٌ لَّا مِنْ عِلَّةٍ

وہ اکیلا ہے لیکن کسی کمی کی وجہ سے نہیں اور وہ موجود ہے مگر کسی سبب سے نہیں

يَا مَنْ هُوَ بِالْبِرِّ مَعْرُوْفٌ وَّبِالْاِحْسَانِ مَوْصُوْفٌ مَّعْرُوْفٌ بِلَا غَايَةٍ

اے وہ ذات جو نیکی میں مشہور ہے اور احسان (کی صفت) سے موصوف ہے
جس کی مشہوری کی کوئی حد نہیں

وَّمَوْصُوْفٌ بِلَا نِهَايَةٍ

اور بے انتہا تعریف کی ہوئی ذات

اَوَّلٌ قَدِيْمٌ بِلَا ابْتِدَآءٍ

ایسا اول ہے ایسا قدیم ہے جسکی کوئی ابتداء نہیں

وَّاٰخِرٌ كَرِيْمٌ بِلَا انْتِهَآءٍ

اور سب سے آخر ایسا کریم کہ جسکی کوئی انتہاء نہیں

وَغَفَرَ ذُنُوبَ الْمُذْنِبِيْنَ كَرَمًا وَّحِلْمًا

اور اس نے اپنے کرم اور اپنی بردباری سے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیئے

يَامَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

اے وہ ذات جس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ بہت سننے اور دیکھنے والا ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز، اچھا آقا اور بہترین مددگار ہے

يَادَائِمًا بِلَافَنَآءٍ وَّيَاقَائِمًا بِلَازَوَالٍ وَّيَامُدَبِّرًا بِلَا وَزِيْرٍ

اے وہ ذات جو کسی فنا کے بغیر ہمیشہ رہنے والی اور اے وہ ذات جو کسی زوال کے بغیر کائنات کی نگرانی کرنے والی ہے اور اے وہ ذات جو کسی وزیر کے بغیر سلطنتِ کائنات چلانے والی ہے

سَهِّلْ عَلَيْنَا وَعَلٰى وَالِدَيْنَا كُلَّ عَسِيْرٍ

آسان فرما ہم پر اور ہمارے والدین پر ہر قسم کی مشکل

لَا اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

میں آپ کے شایان شان تعریف نہیں کر سکتا آپ ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسی کہ آپ نے اپنی خود اپنی تعریف فرمائی ہے

عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآئُكَ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَآئُكَ وَعَظُمَ شَانُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

تیرے پڑوس میں رہنے والا معزز ہے اور تیری تعریف برتر ہے اور تیرے نام مقدس ہیں اور تیری شان بلند وبالا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ بِقُدْرَتِهٖ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ بِعِزَّتِهٖ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ

اللہ تعالی اپنی قدرت سے جو چاہتا کرتا ہے اور جس بات کا ارادہ کرتا ہے اپنی طاقت سے اس کا فیصلہ صادر کرتا ہے غور سے سنو! تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

پس اے (محمد ﷺ) اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا (ان منافقوں کی طرف سے) اور وہ سننے اور جاننے والا ہے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَ كَفٰى سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنۡ دَعَا لَيۡسَ وَرَآءَ اللّٰهِ الۡمُنۡتَهٰى مَنِ اعۡتَصَمَ بِاللّٰهِ نَجٰى

اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہمارا کارساز ہے اللہ تعالی نے اس کی دعا سن لی جس نے اس کو پکارا، اللہ تعالی کے بعد (مرادوں) کی اور کہیں انتہا نہیں، جس نے اللہ تعالی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا وہ نجات پا گیا

سُبۡحَانَ مَنۡ لَمۡ يَزَلۡ رَبًّا رَّحِيۡمًا وَّلَا يَزَالُ كَرِيۡمًا

پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے پروردگار اور رحم کرنے والی اور ہمیشہ سے کرم (سخاوت) کرنے والی ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الۡحَلِيۡمُ الۡكَرِيۡمُ (کنز العمال)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار، سخی ہے

سُبۡحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

اللہ کی ذات پاک ہے اور بابرکت ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں

اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِّتْرًا حَيًّا قَيُّوْمًا دَائِمًا اَبَدًا

ایسا معبود جو تنہا و یکتا، بے نیاز، یگانہ، طاق، زندہ، قائم و دائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے

لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (الدعوات الکبیر للبیہقی)

جس نے نہ بیوی ہی اختیار کی اور نہ ہی اولاد اختیار کی ہے

وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ (الدعوات الکبیر للبیہقی)

اور نہ ہی ملک میں اسکا کوئی شریک ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ (الدعوات الکبیر للبیہقی)

اور (کمزوری یا عیب کے سبب) اسکا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے

وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ (الدعوات الکبیر للبیہقی)

اور اس کی بڑائی بیان کر، اللہ سب سے بڑا ہے

حَسْبُنَا اللّٰهُ لِدِيْنِنَا (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے دین کے لئے

حَسْبُنَا اللّٰهُ لِدُنْيَانَا (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہماری دنیا کے لئے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ لِمَا اَهَمَّنَا (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے جو کچھ مصیبت ہمیں آئے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ لِمَنۡ بَغٰی عَلَيۡنَا (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اس شخص پر جو ہمارے اوپر ظلم کرے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ لِمَنۡ حَسَدَنَا (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے اس شخص کی طرف سے جو ہمارے ساتھ حسد کرے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ لِمَنۡ كَادَنَا بِالسُّوۡءِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے اس شخص کی طرف سے جو ہمارے خلاف سازش کرے

حَسۡبُنَا اللّٰهُ عِنۡدَ الۡمَوۡتِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے موت کے وقت۔

حَسۡبُنَا اللّٰهُ عِنۡدَ الۡقَبۡرِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے قبر میں

حَسۡبُنَا اللّٰهُ عِنۡدَ الۡمَسَآئِلِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے سوالوں کے وقت

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے پل صراط پر

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْحِسَابِ

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے حساب کے وقت

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ (مکارم الاخلاق للخراطی)

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے ہمارے اعمال کے تولنے کے وقت

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے جنت میں جانے اور جہنم سے بچانے کے لئے

حَسْبُنَا اللّٰهُ عِنْدَ اللِّقَآءِ

اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے دیدار کے وقت

حَسْبِيَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

میرے لئے وہ اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی پر میں
بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَآ اَعْظَمَ اللّٰهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کس قدر بڑا ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَآ اَحْلَمَ اللّٰهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کس قدر حلیم (بردبار) ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَآ اَكْرَمَ اللّٰهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کس قدر سخی ہے

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ (بخاری)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا

محمد (ﷺ) اللہ کے برحق پیغمبر ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ

اے اللہ! درود نازل فرما ہمارے سردار (حضرت) محمد (ﷺ) پر جب جب

کہ ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

اے اللہ! درود نازل فرمائے ہمارے سردار (حضرت) محمد (ﷺ) پر جب

جب کہ غافل لوگ آپ کا ذکر کرنے سے غافل ہو جائیں (القول البدیع)

رَضِيْنَا بِاللهِ تَعَالىٰ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

ہم راضی ہیں اللہ تعالی سے، اس کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر

وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا (رواہ الدارمی)

اور حضرت محمد ﷺ سے اسکے نبی اور رسول ہونے پر

وَّبِالْقُرْآنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً

اور قرآن پاک کے رہنما ہونے پر اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر

وَّبِالصَّلٰوةِ فَرِيْضَةً

اور نماز کے ہم پر فرض ہونے پر

وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا

اور مؤمنین سے ہمارے بھائی ہونے پر

وَّبِالصِّدِّيْقِ وَبِالْفَارُوْقِ وَبِذِى النُّوْرَيْنِ وَبِالْمُرْتَضٰى اَئِمَّةً
رِضْوَانُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰؓ سے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالی کی رضامندی ہو

مَرْحَباً بِالصَّبَاحِ الْجَدِيْدِ وَبِالْيَوْمِ السَّعِيْدِ

مبارک ہو نئی صبح اور اچھا دن مبارک ہو

وَبِالْمَلَكَيْنِ الْكَاتِبَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ الْعَادِلَيْنِ

اور مبارک ہو اعمال لکھنے والے دو فرشتوں کو جو کہ عدل وانصاف والے گواہ ہیں

حَيَّا كُمَا اللهُ تَعَالٰى فِيْ غُرَّةِ يَوْمِنَا هٰذَا ا كْتُبَا فِيْ اَوَّلِ
صَحِيْفَتِنَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت رکھے ہمارے آج کے اس دن کی ابتداء میں
ہمارت اعمال نامہ میں لکھو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَاَشْهَدَا بِاَنَّا نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (رواہ مسلم)

اور تم دونوں گواہ رہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ
حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اس کے بندے اور رسول ہیں

أَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (القرآن)

جنھیں اللہ نے ہدات (قرآن) کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں

عَلٰى هٰذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيَا وَعَلَيْهَا نَمُوْتُ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

اور اسی گواہی پر ہم زندہ ہیں اور اسی پر ہم مریں گے اور انشاء اللہ تعالی اسی گواہی پر ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (رواه مسلم)

میں اللہ تعالی کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے شر سے

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ السَّمَآءِ

اللہ تعالی کے نام سے جو تمام ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالی کے نام سے جو زمین اور آسمان کا رب ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (رواہ ترمذی وابن ماجہ)

اس اللہ تعالی کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور بہت وہ سننے اور جاننے والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ الْبَعْثُ وَالنُّشُوْرُ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور قیامت کے دن اٹھ کر اسی کی طرف لوٹنا ہے (رواہ بخاری)

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (رواہ ابوداؤد)

ہم نے صبح کی اور سارے ملک نے صبح کی اللہ کے لئے جو تمام عالموں کا رب ہے

وَالْعِزَّةُ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِیَآءُ وَالْجَبَرُوْتُ وَالسُّلْطَانُ وَالْبُرْھَانُ لِلّٰهِ وَالْاٰلَآءُ وَالنَّعْمَآءُ لِلّٰهِ وَاللَّیْلُ وَالنَّھَارُ لِلّٰهِ وَمَا سَكَنَ فِیْھِمَا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ

اور ساری عزت اور عظمت اور ساری بڑائی اور طاقت اور ساری بادشاہت اور روشن دلیلیں اللہ کو ہی شایان شان ہیں اور تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور دن اور رات اللہ کی مخلوق ہیں اور جو چیز رات و دن میں قرار پائے ہے وہ سب اکیلے، زبردست طاقت والے اللہ کی مخلوق ہیں

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ

ہم نے دین فطرت (اسلام) اور کلمہ توحید پر صبح کی

وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(رواہ دارمی)

اور ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے دین پر اور اپنے والد حضرت ابراہیمؑ جو خالص مواحد و مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، کی ملتِ حنیف پر صبح کی

صَلَوٰتُ اللهِ تَعَالٰى وَمَلَآئِكَتِهٖ وَأَنْبِيَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ وَحَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

درود و رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اس کے پیغمبروں کی، اس کے رسولوں کی اور اس کا عرش اٹھانے والوں کی اور تمام مخلوق کی ہمارے سردار حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور انکی اولاد اور انکے صحابہ پر، آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اور آپ کے اصحاب پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں نازل ہوں

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے رسول ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاحَبِیْبَ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے محبوب ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاخَلِیْلَ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے خلیل (دوست) ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَانَبِیَّ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے نبی ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاصَفِیَّ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے برگزیدہ ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ والسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاخَیْرَخَلْقِ اللّٰہِ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنِ اخْتَارَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جسے اللہ نے پسند کیا ہے ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنْ اَرْسَلَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنْ زَیَّنَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے زینت بخشی ہے صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنْ شَرَّفَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے مشرف بنایا ہے صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنْ کَرَّمَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَامَنْ عَظَّمَہُ اللّٰہُ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے عظمت بخشی ہے صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاسَیِّدَ الْمُرْسَلِیْنَ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے تمام پیغمبروں کے سردار صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَااِمَامَ الْمُتَّقِیْنَ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے تمام پرہیزگاروں کے پیشوا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَاخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے تمام نبیوں کے بعد آنے والے صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ (۳ مرتبہ)

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے تمام عالموں کے لئے رحمت ﷺ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

آپ پر درود و سلام نازل ہو اے تمام جہانوں کے پروردگا کے پیغمبر ﷺ

صَلَوٰتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَمَلَآئِکَتِهٖ وَاَنْبِیَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ وَحَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَجَمِیْعِ خَلْقِهٖ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ

درود ورحمتیں نازل ہوں اللہ تعالی کی، اس کے فرشتوں کی اس کے پیغمبروں کی، اس کے رسولوں کی اور اس کا عرش اٹھانے والوں کی اور تمام مخلوق کی ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ اور انکی اولاد اور انکے صحابہ پر، آپ ﷺ پر اور آپکے اصحاب پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں نازل ہوں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ (الحزب الاعظم)

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر درود نازل فرما پہلے لوگوں میں سے

وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ (الحزب الاعظم)

اور درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر بعد میں آنے والے لوگوں میں

وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاءِ الْاَعْلٰی اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ
(الحزب الاعظم)

اور درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر ملائکہ مقربین میں قیامت کے دن تک

وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِیْ کُلِّ وَقْتٍ وَّحِیْنٍ

اور درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر ہر وقت اور ہر گھڑی

وَّصَلِّ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی مَلَآئِکَتِكَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَعَلٰی عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ وَعَلٰی اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِیْنَ

درود نازل فرما تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر اور اپنے تمام مقرب فرشتوں پر اور اپنے تمام نیک بندوں پر اور اپنے سب اطاعت گزار بندوں پر

وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

اور ہم پر رحم کر انکے ساتھ، اپنی مہربانی سے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور

دُعَاءُ الرِّقَاب

گردنوں کے چھڑانے کی دعا

اَللّٰھُمَّ یَامَالِكَ الرِّقَابِ

اے اللہ! اے گردنوں کے مالک

وَیَامُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ

اور اے رحمت کے دروازے کھولنے والے

وَیَامُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ هَيِّئْ لَنَا سَبَبًا لَّا نَسْتَطِيْعُ لَهُ طَلَبًا

اور اے سبب ساز ہمارے لئے (رزق کا) ایسا سبب مہیا فرما جسکی تلاش کی ہمیں طاقت نہیں

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا مَشْغُوْلِيْنَ بِاَمْرِكَ

اے اللہ! ہمیں اپنے حکم کی تعمیل میں مشغول رکھ

آمِنِيْنَ بِعَدْلِكَ

اپنے انصاف سے امن میں رکھ

آيِسِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ

اپنی مخلوق سے بے نیاز بنا

آنِسِيْنَ بِكَ

اپنی ذات سے مانوس رکھ

مُسْتَوحِشِيْنَ عَنْ غَيْرِكَ

اپنے غیر سے ہراسان رکھ

رَاضِيْنَ بِقَضَآئِكَ

اپنے فیصلے پر راضی رہنے والے بنا

صَابِرِيْنَ عَلٰى بَلَآئِكَ

آپ کی آزمائش پر صبر کرنے والا بنا

قَانِعِيْنَ لِعَطَآئِكَ

اپنی بخشش پر قناعت کرنے والے بنا

شَاكِرِيْنَ لِنَعْمَآئِكَ

اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا

مُتَلَذِّذِيْنَ بِذِكْرِكَ

اپنی یاد سے لذت اٹھانے والا بنا

فَرِحِيْنَ بِكِتَابِكَ

اپنی کتاب (قرآن مجید) پر خوش ہونے ولا بنا

مُنَاجِيْنَ بِكَ فِيْ اٰنَآءِ اللَّيْلِ وَاَطْرَافِ النَّهَارِ

اپنی ذات کے ساتھ رات اور دن کے حصوں میں سرگوشی کرنے والا بنا

مُبْغِضِيْنَ لِلدُّنْيَا

دنیا سے نفرت کرنے والا بنا

وَمُحِبِّيْنَ لِلْاٰخِرَةِ

اور آخرت سے محبت کرنے والا بنا

مُشْتَاقِيْنَ اِلٰى لِقَآئِكَ

اپنے دیدار کا شوق رکھنے والا بنا

مُتَوَجِّهِيْنَ اِلٰى جَنَابِكَ

تیرے دربار کی طرف متوجہ رہنے والا بنا

مُسْتَعِدِّيْنَ لِلْمَوْتِ

موت کے لئے ہر وقت تیار رہنے والا بنا

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

اے ہمارے رب! ہمیں وہ چیز دیجئے جس کا آپ نے وعدہ دیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، اور ہمیں قیامت میں رسوا نہ فرمابیشک آپ وعدہ پورا کرنے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ التَّوْفِيْقَ رَفِيْقَنَا وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
طَرِيْقَنَا

اے اللہ توفیق کو ہمارا ساتھی بنا اور سیدھے راستہ کو ہماری راہ بنا

اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْنَا اِلٰى مَقَاصِدِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اے ہمارے اللہ! ہمیں اپنے مقاصد تک پہنچا اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما بیشک آپ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ
وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

اے اللہ! ہم نے تیری ہی مہربانی سے صبح کی اور تیری ہی مہربانی سے شام کی اور تیری ہی مہربانی سے زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پر مر جائیں گے اور تیری ہی طرف لوٹ آئیں گے

اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰی وَجْھِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَآئِكَ

اے اللہ! ہمیں اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی لذت اور اپنے دیدار کا شوق عطا فرما

اَللّٰھُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَہٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَہٗ

اے اللہ! ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس حق کی اتباع نصیب فرما اور جھوٹ کو جھوٹ ہی دکھا اور اس سے بچنا نصیب فرما

اَللّٰھُمَّ اَرِنَا حَقَآئِقَ الْاَشْیَآءِ کَمَا ھِیَ

اے اللہ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقتیں ایسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں

تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ

ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور نیک بندوں کے ساتھ ہمیں ملا

وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظَّالِمِیْنَ وَشَارِكْنَا فِیْ دُعَآءِ الْمُؤْمِنِیْنَ

اور ہم سے ظالموں کا شر دور فرما اور ہمیں مؤمنین کی دعاؤں میں شامل فرما

وَنَبِّھْنَا عَنْ نَّوْمَةِ الْغَافِلِیْنَ

اور ہمیں غافلوں کی نید سے بیدار فرما

وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اور ہمیں رسولوں کے سردار (حضرت محمد ﷺ) کی شفاعت نصیب فرما

وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ

اور ہمیں سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل فرما

وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

اور ہمیں پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھا

وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

اور ہمیں آگ سے آزاد فرما اے پناہ دینے والے

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ (زاد مومن)

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی مغفرت فرما

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ (زاد مومن)

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت پر رحم فرما

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی مدد فرما

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ لِاُمَّۃِ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کو دشمنوں پر فتح نصیب فرما

اَللّٰھُمَّ اَصْلِحْ اُمَّۃَ مُحَمَّدٍ ﷺ (زاد مومن)

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی اصلاح فرما

اَللّٰھُمَّ فَرِّجْ عَنْ اُمَّۃِ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی پریشانی دور فرما

اَللّٰھُمَّ کَرِّمْ اُمَّۃَ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کو عزت عطا فرما

اَللّٰھُمَّ عَظِّمْ اُمَّۃَ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کو عظمت عطا فرما

اَللّٰھُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئٰتِ اُمَّۃِ مُحَمَّدٍ ﷺ

اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی برائیوں سے درگزر فرما

اَللّٰھُمَّ یَا حَبِیْبَ التَّوَّابِیْنَ تُبْ عَلَیْنَا

اے اللہ! اے توبہ کرنے والوں کو دوست رکھنے والے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما

وَيَا اَمَانَ الْخَائِفِيْنَ اٰمِنَّا

اور اے خوف کے ماروں کو امن دینے والے ہمیں امن عطا فرما

وَيَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ دُلَّنَا

اور اے راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ دکھانے والے ہمیں راستہ دکھا

وَيَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ اهْدِنَا

اور اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے ہمیں ہدایت دے

وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا

اور اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے ہماری فریاد رسی فرما

وَيَا رَجَآءَ الْمُنْقَطِعِيْنَ لَا تَقْطَعْ رَجَائَنَا

اور اے ناامیدوں کی امید، ہماری امید کو مت توڑیئے

وَيَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ ارْحَمْنَا

اور اے نافرمانوں پر رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما

وَيَا غَافِرَ الْمُذْنِبِيْنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئٰتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

اور اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری برائیوں کو مٹا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا

اے اللہ! ہمارے گناہ بخش دیجئے

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عُيُوْبَنَا

اے اللہ! ہمارے عیبوں کو چھپا

اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا

اے اللہ! ہمارے دلوں کو کھول دے

اَللّٰهُمَّ احْفَظْ قُلُوْبَنَا

اے اللہ! ہمارے دلوں کی حفاظت فرما

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا

اے اللہ! ہمارے دلوں کو روشن فرما

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُبُوْرَنَا

اے اللہ! ہماری قبروں کو روشن فرما

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ اُمُوْرَنَا

اے اللہ! ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرما

اَللّٰھُمَّ حَصِّلْ مُرَادَنَا

اے اللہ! ہماری مراد پوری فرما

اَللّٰھُمَّ تَمِّمْ تَقَاصِیْرَنَا

اے اللہ! ہماری کوتاہیوں کو پورا کر دے (معاف فرما)

اَللّٰھُمَّ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ یَا خَفِیَّ الْاَلْطَافِ

اے اللہ! ہمیں اس چیز سے نجات دے جس کا ہمیں خوف ہے اے پوشیدہ مہربانی کرنے والے

اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَیْنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَلِاَسَاتِذَتِنَا وَ لِاَصْحَابِنَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَّہٗ حَقٌّ عَلَیْنَا وَلِجَمِیْعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اے اللہ! ہماری اور ہمارے والدین اور ہمارے مشائخ اور ہمارے استاذوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے دوستوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے قبیلہ والوں اور جس کا ہم پر حق کی مغفرت فرما اور حضرت محمد (آپ پر درود سلام ہو) کی پوری امت کی مغفرت فرما

وَقِنَا رَبَّنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ وَعَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ وَالْاَبْرَارِ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس شر سے بچا جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچا اور قیامت کے دن کے عذاب سے اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْاَوْرَادِ الْفَتْحِيَّةِ اِفْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَوَفِّقْنَا لِلطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْاٰفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ

اے اللہ! اس اوراد فتحیہ کی برکت سے کھول دے ہمارے لئے اپنی مہربانیوں اور بخششوں کے دروازے اور ہمیں اپنی فرماں برداری اور عبادتوں کی توفیق عطا فرما اور ہمیں آفتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ

وَبَارِكْ لَنَا فِي الرِّزْقِ وَالْعُمْرِ وَالْحَسَنَاتِ

اور برکت دے ہمیں رزق، عمر اور نیکیوں میں

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا يَا فَيَّاضُ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَايَا وَالْاَمْرَاضِ

اے اللہ! اے فیض و برکت والے خدا ہمیں محفوظ رکھ تمام مصیبتوں اور بیماریوں سے

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

اور اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنی مخلوق میں سب سے بہتر یعنی حضرت محمد ﷺ پر اور آپکی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر

(بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ)

آپکی رحمت کے وسیلہ سے (یہ مناجات قبول فرما) اے ارحم الراحمین

آمین یارب العٰلمین